

# جنوری

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	5:43	7:12	12:11	2:51	3:32	5:10	6:39
3	5:44	7:12	12:12	2:53	3:33	5:11	6:41
5	5:44	7:13	12:13	2:54	3:35	5:13	6:42
7	5:45	7:13	12:13	2:56	3:36	5:14	6:43
9	5:45	7:13	12:14	2:57	3:38	5:16	6:45
11	5:45	7:13	12:15	2:59	3:40	5:18	6:47
13	5:45	7:12	12:16	3:01	3:42	5:20	6:48
15	5:45	7:12	12:17	3:02	3:44	5:21	6:50
17	5:44	7:11	12:17	3:04	3:45	5:23	6:51
19	5:44	7:11	12:18	3:06	3:47	5:25	6:53
21	5:44	7:10	12:19	3:07	3:49	5:27	6:55
23	5:43	7:09	12:19	3:09	3:51	5:29	6:56
25	5:42	7:08	12:20	3:11	3:53	5:31	6:58
27	5:41	7:07	12:20	3:12	3:55	5:33	7:00
29	5:41	7:06	12:20	3:14	3:57	5:35	7:01
31	5:39	7:05	12:21	3:16	3:59	5:37	7:03

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جفت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری و تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور کر وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔  
عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مکمل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مکمل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت شفق، یعنی غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ عثمانیہ پاکستان راولپنڈی پاکستان ☎ 051-5507270--5507530

# فروری

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	5:39	7:04	12:21	3:17	4:00	5:38	7:04
3	5:38	7:02	12:21	3:18	4:02	5:40	7:06
5	5:36	7:01	12:21	3:20	4:04	5:42	7:07
7	5:35	6:59	12:21	3:21	4:05	5:44	7:09
9	5:34	6:57	12:21	3:23	4:07	5:46	7:11
11	5:32	6:56	12:22	3:24	4:09	5:47	7:12
13	5:30	6:54	12:21	3:25	4:11	5:49	7:14
15	5:28	6:52	12:21	3:27	4:12	5:51	7:16
17	5:27	6:50	12:21	3:28	4:14	5:53	7:17
19	5:25	6:47	12:21	3:29	4:16	5:55	7:19
21	5:23	6:45	12:21	3:31	4:17	5:57	7:21
23	5:20	6:43	12:21	3:32	4:19	5:58	7:22
25	5:18	6:41	12:20	3:33	4:20	6:00	7:24
27	5:16	6:38	12:20	3:34	4:22	6:02	7:25
29	5:14	6:37	12:20	3:34	4:23	6:03	7:27

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ﴿ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری و تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ﴿ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ﴿ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ﴿ بہت سے فقہاء کے نزدیک منیٰ اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز منیٰ ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ﴿ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ﴿ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ﴿ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امین کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو گری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ﴿ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت راولپنڈی پاکستان ☎ 051-5507270--5507530



# مارچ

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	5:14	6:36	12:20	3:35	4:23	6:04	7:27
3	5:11	6:33	12:19	3:36	4:25	6:05	7:29
5	5:09	6:31	12:19	3:37	4:26	6:07	7:30
7	5:06	6:28	12:18	3:38	4:27	6:09	7:32
9	5:04	6:25	12:18	3:39	4:29	6:10	7:33
11	5:01	6:23	12:17	3:39	4:30	6:12	7:35
13	4:58	6:20	12:17	3:40	4:31	6:13	7:37
15	4:55	6:17	12:16	3:41	4:32	6:15	7:38
17	4:53	6:15	12:16	3:41	4:33	6:16	7:40
19	4:50	6:12	12:15	3:42	4:34	6:18	7:42
21	4:47	6:09	12:15	3:42	4:35	6:20	7:43
23	4:44	6:07	12:14	3:43	4:36	6:21	7:45
25	4:41	6:04	12:13	3:43	4:37	6:23	7:47
27	4:38	6:01	12:13	3:44	4:38	6:24	7:48
29	4:35	5:59	12:12	3:44	4:39	6:26	7:50
31	4:32	5:56	12:12	3:44	4:44	6:27	7:52

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری اور تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# اپریل

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	4:31	5:55	12:11	3:44	4:41	6:28	7:53
3	4:28	5:52	12:11	3:45	4:42	6:29	7:55
5	4:25	5:49	12:10	3:45	4:42	6:31	7:57
7	4:22	5:47	12:09	3:45	4:43	6:32	7:58
9	4:19	5:44	12:09	3:45	4:44	6:34	8:00
11	4:16	5:42	12:08	3:46	4:45	6:35	8:02
13	4:13	5:39	12:08	3:46	4:46	6:37	8:04
15	4:10	5:36	12:07	3:46	4:46	6:38	8:06
17	4:07	5:34	12:07	3:46	4:47	6:40	8:08
19	4:04	5:32	12:06	3:46	4:48	6:41	8:10
21	4:01	5:29	12:06	3:46	4:49	6:43	8:12
23	3:58	5:27	12:06	3:46	4:49	6:44	8:14
25	3:56	5:25	12:05	3:46	4:50	6:46	8:16
27	3:53	5:23	12:05	3:47	4:51	6:47	8:18
29	3:50	5:20	12:05	3:47	4:52	6:49	8:21
30	3:48	5:19	12:05	3:47	4:52	6:50	8:22

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری اور تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# مسی

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	3:47	5:18	12:04	3:47	4:52	6:51	8:23
3	3:45	5:16	12:04	3:47	4:53	6:52	8:25
5	3:42	5:15	12:04	3:47	4:54	6:54	8:27
7	3:40	5:13	12:04	3:47	4:55	6:55	8:29
9	3:37	5:11	12:04	3:47	4:55	6:57	8:31
11	3:35	5:09	12:04	3:47	4:56	6:58	8:34
13	3:33	5:08	12:04	3:48	4:57	7:00	8:36
15	3:31	5:06	12:04	3:48	4:58	7:01	8:38
17	3:29	5:05	12:04	3:48	4:58	7:03	8:40
19	3:27	5:04	12:04	3:48	4:59	7:04	8:42
21	3:25	5:03	12:04	3:48	5:00	7:06	8:44
23	3:23	5:01	12:04	3:49	5:01	7:07	8:46
25	3:22	5:00	12:04	3:49	5:01	7:08	8:48
27	3:20	5:00	12:05	3:49	5:02	7:10	8:50
29	3:19	4:59	12:05	3:49	5:03	7:11	8:52
31	3:17	4:58	12:05	3:50	5:04	7:12	8:54

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری و تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔  
عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# جون

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	3:17	4:58	12:05	3:50	5:04	7:13	8:54
3	3:16	4:57	12:06	3:50	5:05	7:14	8:56
5	3:15	4:57	12:06	3:51	5:05	7:15	8:58
7	3:14	4:57	12:06	3:51	5:06	7:16	8:59
9	3:14	4:56	12:07	3:51	5:07	7:17	9:00
11	3:13	4:56	12:07	3:52	5:07	7:18	9:01
13	3:13	4:56	12:08	3:52	5:08	7:19	9:03
15	3:13	4:56	12:08	3:53	5:08	7:19	9:03
17	3:13	4:57	12:08	3:53	5:09	7:20	9:04
19	3:13	4:57	12:09	3:53	5:09	7:21	9:05
21	3:14	4:57	12:09	3:54	5:10	7:21	9:05
23	3:14	4:58	12:10	3:54	5:10	7:22	9:06
25	3:15	4:58	12:10	3:55	5:11	7:22	9:06
27	3:15	4:59	12:11	3:55	5:11	7:22	9:06
29	3:16	5:00	12:11	3:56	5:11	7:22	9:06
30	3:16	5:00	12:11	3:56	5:11	7:22	9:06

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری و تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پڑھیں اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# جولائی

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	3:17	5:01	12:11	3:56	5:11	7:22	9:06
3	3:18	5:02	12:12	3:56	5:12	7:22	9:05
5	3:20	5:03	12:12	3:57	5:12	7:22	9:05
7	3:21	5:04	12:12	3:57	5:12	7:21	9:04
9	3:23	5:05	12:13	3:57	5:12	7:21	9:03
11	3:24	5:06	12:13	3:58	5:12	7:20	9:02
13	3:26	5:07	12:13	3:58	5:11	7:20	9:01
15	3:27	5:08	12:13	3:58	5:11	7:19	8:59
17	3:29	5:09	12:14	3:58	5:11	7:18	8:58
19	3:31	5:11	12:14	3:58	5:10	7:17	8:56
21	3:33	5:12	12:14	3:58	5:10	7:16	8:55
23	3:35	5:13	12:14	3:58	5:09	7:15	8:53
25	3:37	5:15	12:14	3:58	5:09	7:13	8:51
27	3:39	5:16	12:14	3:58	5:08	7:12	8:49
29	3:41	5:18	12:14	3:58	5:07	7:10	8:47
31	3:43	5:19	12:14	3:57	5:07	7:09	8:45

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری اور تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔  
عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت ملحق امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# اگست

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفنوں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	3:44	5:20	12:14	3:57	5:06	7:08	8:43
3	3:46	5:21	12:14	3:57	5:05	7:06	8:41
5	3:48	5:22	12:13	3:57	5:04	7:04	8:39
7	3:50	5:24	12:13	3:56	5:03	7:02	8:36
9	3:52	5:25	12:13	3:55	5:02	7:01	8:33
11	3:54	5:27	12:13	3:55	5:00	6:58	8:31
13	3:56	5:28	12:12	3:54	4:59	6:56	8:28
15	3:58	5:30	12:12	3:53	4:58	6:54	8:25
17	4:00	5:31	12:12	3:53	4:56	6:52	8:22
19	4:02	5:32	12:11	3:52	4:55	6:50	8:20
21	4:04	5:34	12:11	3:51	4:53	6:47	8:17
23	4:06	5:35	12:10	3:50	4:51	6:45	8:14
25	4:08	5:37	12:09	3:49	4:50	6:42	8:11
27	4:10	5:38	12:09	3:47	4:48	6:40	8:08
29	4:12	5:39	12:08	3:46	4:46	6:37	8:05
31	4:14	5:41	12:08	3:45	4:44	6:35	8:02

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



ستمبر

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفنوں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	4:15	5:41	12:07	3:44	4:43	6:33	8:00
3	4:16	5:43	12:07	3:43	4:41	6:31	7:57
5	4:18	5:44	12:06	3:41	4:39	6:28	7:54
7	4:20	5:46	12:05	3:40	4:37	6:25	7:51
9	4:21	5:47	12:05	3:38	4:35	6:23	7:48
11	4:23	5:48	12:04	3:37	4:33	6:20	7:45
13	4:25	5:50	12:03	3:35	4:31	6:17	7:42
15	4:26	5:51	12:03	3:34	4:28	6:14	7:39
17	4:28	5:52	12:02	3:32	4:26	6:11	7:36
19	4:30	5:54	12:01	3:30	4:24	6:09	7:33
21	4:31	5:55	12:00	3:28	4:22	6:06	7:30
23	4:33	5:56	12:00	3:27	4:19	6:03	7:27
25	4:34	5:58	11:59	3:25	4:17	6:00	7:24
27	4:36	5:59	11:58	3:23	4:15	5:58	7:21
29	4:37	6:01	11:58	3:21	4:12	5:55	7:18
30	4:38	6:01	11:57	3:20	4:11	5:53	7:17

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری اور تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے

اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے

وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشریات و رسائل اسلامیہ پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530

# اکتوبر

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفنوں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	4:39	6:02	11:57	3:19	4:10	5:52	7:15
3	4:40	6:03	11:56	3:17	4:08	5:49	7:13
5	4:42	6:05	11:56	3:16	4:05	5:47	7:10
7	4:43	6:06	11:55	3:14	4:03	5:44	7:07
9	4:45	6:08	11:55	3:12	4:01	5:41	7:05
11	4:46	6:09	11:54	3:10	3:58	5:39	7:02
13	4:48	6:11	11:54	3:08	3:56	5:36	7:00
15	4:49	6:12	11:53	3:06	3:54	5:34	6:57
17	4:51	6:14	11:53	3:05	3:52	5:31	6:55
19	4:52	6:16	11:52	3:03	3:50	5:29	6:53
21	4:54	6:17	11:52	3:01	3:48	5:27	6:51
23	4:55	6:19	11:52	2:59	3:45	5:24	6:48
25	4:57	6:21	11:51	2:58	3:43	5:22	6:46
27	4:58	6:22	11:51	2:56	3:41	5:20	6:45
29	5:00	6:24	11:51	2:54	3:40	5:18	6:43
31	5:01	6:26	11:51	2:53	3:38	5:16	6:41

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری و تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# نومبر

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفنوں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	5:02	6:27	11:51	2:52	3:37	5:15	6:40
3	5:04	6:28	11:51	2:51	3:35	5:13	6:38
5	5:05	6:30	11:51	2:50	3:33	5:12	6:37
7	5:07	6:32	11:51	2:48	3:32	5:10	6:36
9	5:08	6:34	11:51	2:47	3:30	5:08	6:34
11	5:10	6:36	11:51	2:46	3:29	5:07	6:33
13	5:11	6:38	11:52	2:45	3:28	5:06	6:32
15	5:13	6:39	11:52	2:44	3:27	5:04	6:31
17	5:15	6:41	11:52	2:43	3:25	5:03	6:30
19	5:16	6:43	11:53	2:42	3:24	5:02	6:29
21	5:18	6:45	11:53	2:42	3:24	5:01	6:29
23	5:20	6:47	11:54	2:41	3:23	5:01	6:28
25	5:21	6:49	11:54	2:41	3:22	5:00	6:28
27	5:23	6:51	11:55	2:40	3:22	4:59	6:28
29	5:24	6:52	11:56	2:40	3:21	4:59	6:27
30	5:25	6:53	11:56	2:40	3:21	4:59	6:27

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری و تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔

عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530



# دسمبر

## نقشہ اوقات نماز، سحر و افطار

برائے  
راولپنڈی  
واسلام آباد شہر

مسجدوں، مدرسوں، دفاتروں اور گھروں کے لئے یکساں مفید

تاریخ ↓	صبح صادق منٹ : گھنٹہ	طلوع منٹ : گھنٹہ	زوال منٹ : گھنٹہ	عصر اول منٹ : گھنٹہ	عصر ثانی منٹ : گھنٹہ	غروب منٹ : گھنٹہ	عشاء منٹ : گھنٹہ
1	5:26	6:54	11:56	2:40	3:21	4:59	6:27
3	5:27	6:56	11:57	2:40	3:21	4:59	6:27
5	5:29	6:57	11:58	2:40	3:21	4:59	6:28
7	5:30	6:59	11:59	2:40	3:21	4:59	6:28
9	5:32	7:01	12:00	2:41	3:21	4:59	6:28
11	5:33	7:02	12:01	2:41	3:21	4:59	6:29
13	5:34	7:03	12:02	2:42	3:22	5:00	6:29
15	5:36	7:05	12:03	2:42	3:22	5:00	6:30
17	5:37	7:06	12:03	2:43	3:23	5:01	6:31
19	5:38	7:07	12:04	2:44	3:24	5:02	6:32
21	5:39	7:08	12:05	2:45	3:25	5:03	6:32
23	5:40	7:09	12:06	2:46	3:26	5:04	6:33
25	5:41	7:10	12:07	2:47	3:27	5:05	6:35
27	5:42	7:11	12:08	2:48	3:28	5:06	6:36
29	5:42	7:11	12:09	2:49	3:30	5:07	6:37
31	5:43	7:12	12:10	2:51	3:31	5:09	6:38

اس نقشہ میں اختصار کے پیش نظر صرف طاق تاریخوں کے اوقات درج کئے گئے ہیں، جہت تاریخوں کے اوقات کا تناسب آگے پیچھے کی تاریخوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے

سحری، تہجد اور فجر ☞ اس نقشہ میں درج صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری اور تہجد کا وقت ہے، اور بعد میں فجر کا وقت ہے، لہذا سحری و تہجد صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے بند کر دیں، اور فجر صبح صادق کے بعد پڑھیں، دو تین منٹ کی دونوں طرف سے احتیاط رکھیں، یعنی سحری اور تہجد اس وقت سے تین چار منٹ پہلے بند کر دیں، اور فجر اس وقت سے تین چار منٹ بعد پڑھیں۔

طلوع و اشراق ☞ اس نقشہ میں درج طلوع آفتاب کے وقت پر فجر کا وقت ختم اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق وغیرہ اس کے دس سے پندرہ منٹ بعد پڑھیں۔

زوال و ابتدائے ظہر ☞ اس نقشہ میں درج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ اس سے چار پانچ منٹ پہلے اور بعد تک ہر قسم کی نماز سے پرہیز کریں۔  
عصر اول ☞ بہت سے فقہاء کے نزدیک مثل اول پر (جس کو اس نقشہ میں عصر اول لکھا گیا ہے) ظہر کا وقت ختم، اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لئے ظہر کی نماز عصر اول کے وقت سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز مثل ثانی (جس کو نقشہ میں عصر ثانی لکھا گیا ہے) کے بعد پڑھیں، اور کسی ضرورت و مجبوری میں عصر کی نماز عصر اول کے بعد پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔

مغرب ☞ اس نقشہ میں درج غروب کے وقت مغرب کی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، البتہ دو تین منٹ کی احتیاط کرنی چاہئے، اور مغرب کا اداء وقت عشاء تک جاری رہتا ہے۔

افطار ☞ مغرب اور افطار کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، اس لئے افطار کا معاملہ بھی مغرب کے مطابق سمجھنا چاہئے، اور چند منٹ کی احتیاط کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

عشاء ☞ مغرب کا وقت ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس نقشہ میں عشاء کا وقت حلقہ امینش کے غروب کے مطابق ہے، دو تین منٹ کی احتیاط بہتر ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے وقت کا اختتام اور عشاء کے وقت کا آغاز اس سے کچھ (ایک دو ڈگری) پہلے ہو جاتا ہے، مگر وہ احتیاط کے خلاف ہے اور عشاء کا اداء وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔

نوٹ ☞ گھڑی کا معیاری وقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اس نقشہ میں اصل اوقات دیئے گئے ہیں، اپنی طرف سے چند منٹوں کی احتیاط کرنا مناسب ہے (مزید مسائل اندرونی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

جاری کردہ : ادارہ نشر و اشاعت اسلامی پاکستان ☞ 051-5507270 -- 5507530